

Edmonton Symptom Assessment - Urdu  
Number Scale

ایڈمنٹن تشخیص علامات کی پیمائش

برائے مہربانی اس نمبر پر دائرہ لگائیں جو آپ کے لئے بالکل موزوں ہو

درد بالکل نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	بہت زیادہ درد	1
تھکاوٹ نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Pain	
قے بالکل نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	بہت تھکاوٹ	2
بالکل افسردہ نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Tiredness	
بالکل گھبراہٹ نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	زبردستی	3
بالکل بخمار نہیں	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Nausea	
بھوک لگتی ہے	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	زبردستی افسردہ	4
بالکل سندرست	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Depression	
سانس بالکل ٹھیک	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	زبردستی ذہنی گھبراہٹ	5
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Anxiety	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	زبردستی بخمار	6
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Drowsiness	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	بھوک نہیں لگتی	7
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Appetite	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	بہت بیمار	8
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Well-being	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	سانس میں روکاوٹ	9
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	Shortness of Breath	
	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	اگر کوئی اور تکلیف ہے	10
		Other	


Name: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Time: \_\_\_\_\_

Completed by (check one):

Patient   
Caregiver   
Caregiver-assisted

اگر کوئی اور تکلیف ہے تو اسے درج کریں اور اسے درج کرنے کے لئے اسے درج کریں

برائے مہربانی ان تصویروں پر  
درد کی جگہ نشان دہی کیجئے!



تشریح

- ۲..... تھکاوٹ ..... ہانپ چانا ..... طاقت نہ ہونا
- ۴..... ذہنی پریشانی ..... غمگین ..... ناخوش ..... ہمت ہارنا
- ۵..... اچانک پریشانی ..... اعضا ہی کمزوری ..... گھبراہٹ ..... بے چینی اور ذہل کا گھیرانا
- ۸..... تندرستی کا احساس ..... ہر طرح سے ذہنی اور جسمانی طور پر آرام دہ ہونا